

لَا يَرْجِعُ الظِّنَنُ امْتَنَاعًا صَلَوَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ أَتَسْأَلُهُ

# Cure of Our Worries From Durood Shareef

Compiler

Maulana Muhammad Shafique

Fazil Jamia Uloom Islamia Binnori Town

DARUL-ISHAAT  
URDU BAZAR, KARACHI-PAKISTAN

Email: [ishaat@cyber.net.pk](mailto:ishaat@cyber.net.pk)  
[ishaat@pk.netsolir.com](mailto:ishaat@pk.netsolir.com)

*Copyright Regd. No.  
Ownership of Copyrights are Reserved  
with DARUL - ISHAAT KARACHI  
Copyright delegated to  
Mohammad Asif 310-New Meena Bazar  
Jama Masjid Dehli India*

*FIRST EDITION  
2008*

*PRINTED AT  
ILMI GRAPHICS*

*PUBLISHER  
DARUL - ISHAAT URDU BAZAR KARACHI - PAKISTAN  
E-mail : ishaat@pk.netmiles.com, ishaat@vibrant.net.pk*

*AVAILABLE AT  
MAKTABA MU'ARIFUL QURAN  
DARUL ULOOM, KORANGI, KARACHI*

*AVAILABLE IN U.K.  
AZHAR ACADEMY LTD  
54-68 LITTLE B FORD LANE  
MANOR PARK, LONDON E12 5QA*

## Please Read This First

Allah, the Exalted, has commanded the Muslims to invoke blessing on His Messenger ﷺ who is the chief of both the worlds and the pride of the Messengers. To invoke blessing on him much and frequently is a sign of love for him and this, indeed, is the objective of invoking blessing on him. (This exercise is called *salah* in Arabic and *durud* in Urdu). Some religious elders have found *durud* extremely effective remedy for worldly anxieties. These tried and effective *durud* have been collected and compiled.

Like other means of remedy, *durud* too may be adopted as means of remedy and practiced. To have treatment for one's ailments is the Prophet's *sunnah*, so one must abide by the *sunnah*. However, this can only be successful one discharges the *fard*, honesty

and regularly, and refrains from whatever is forbidden. The *sunnah* and etiquettes must be observed. Moreover, one's belief and conviction must be strong and unwavering. If anyone is hesitant and has doubts then he cannot derive advantage from the *durud* or the invocations and the prescribed rota of supplication.

May Allah enable us to invoke blessing on the Prophet ﷺ very many times and frequently.  
*Aameen!* (The Publisher)

Table of Contents	P. No.
<b>In Order That Prayers May Be Answered</b>	<b>8</b>
<b>For Increase In One's Provision</b>	<b>9</b>
<b>For Overall Advancement And Blessings</b>	<b>10</b>
<b>For Every Kind Of Need</b>	<b>11</b>
<b>To Remove Every Difficulty And Distress</b>	<b>12</b>
<b>To Cure Every Pain And Illness</b>	<b>13</b>
<b>As A Protection From Cholera And Plague</b>	<b>14</b>
<b>For Protection From The Evil Spirit, Jinns And Harmful Animals</b>	<b>15</b>
<b>For Every Kind Of Eye Ailment</b>	<b>17</b>
<b>When A Disease Is Incurable</b>	<b>18</b>
<b>For An Uneasy Heart, Depression And Blood Pressure</b>	<b>19</b>
<b>Efficacious For Every Kind Of Pain</b>	<b>20</b>
<b>To Fight Off Evil Thoughts And Devil's Promptings</b>	<b>21</b>
<b>Deliverance From Hardship And Husband's Cruelty</b>	<b>23</b>
<b>Being Safe From Bandits And Thieves</b>	<b>25</b>

Table of Contents	P. No.
<b>For Repayment Of Debt</b>	<b>27</b>
<b>To Have One's Needs Fulfilled And For Every Kind Of Difficulty</b>	<b>28</b>
<b>To Achieve Honour And Success</b>	<b>29</b>
<b>Deliverance From An Uncalled For Law-Suit And Release From Prison</b>	<b>31</b>
<b>Delieverance From Debt</b>	<b>32</b>
<b>Prosperity In Business</b>	<b>33</b>
<b>To Keep Away From Wickedness And As An Expiation For Sins</b>	<b>34</b>
<b>To Remember That Which Is Forgotten</b>	<b>35</b>
<b>To Have A Good Memory</b>	<b>36</b>
<b>Tidings Of Paradise Before Death</b>	<b>37</b>
<b>In Order That One's Proposal May Be Approved</b>	<b>38</b>
<b>Success In Examinations</b>	<b>39</b>
<b>Mutual Love Between Spouses</b>	<b>40</b>
<b>To Bring Forth The Lost, To Get A Favourable Verdict And To Remove Anxiety</b>	<b>41</b>

Table of Contents	P. No.
<b>For A Reasonable Match And Removal Of Hindrances To Marriage</b>	<b>43</b>
<b>To Have One's Own Home</b>	<b>44</b>
<b>Sins Committed Over A Period Of 80 Years Will Be Forgiven</b>	<b>45</b>
<b>Have 100 Needs Fulfilled</b>	<b>46</b>
<b>Prayer Of Bird Of Paradise</b>	<b>47</b>
<b>For Success In Interview, General Acceptance And To Be Loved</b>	<b>49</b>
<b>To Protect Crop And Produce From Pests And Disease</b>	<b>51</b>
<b>To Be Safe During A Sea Voyage And For A Through Success In All Affairs Of The World And The Hereafter</b>	<b>53</b>
<b>To Be Single Minded</b>	<b>54</b>
<b>For Ailments Of Women</b>	<b>55</b>
<b>For Chronic Fever And Typhoid</b>	<b>56</b>
<b>For A Strong Memory</b>	<b>57</b>

## قبولیت دعا کے لیے

In Order That Prayers  
May Be Answered

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا الْمُبْرِّئِينَ  
صَلِّ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْهُوَاصِحَّابِ  
وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

اگر کوئی چاہے کہ اس کی دعا شرف قبولیت حاصل  
کرے تو وہ اس درود شریف کا وردہ کئے انشاء اللہ دعا  
قبول ہوگی۔

If anyone lets this *durud* flow from  
his tongue continuously then his  
prayers will be answered, *Insha Allah*.

## رزق میں برکت کے لیے

For Increase In One's Provision

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ  
وَرَسُولِكَ وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ  
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ  
(ذريعة الوصول ج ۱، نمبر ۱۵۷)

جو چاہے کہ رزق میں برکت ہو تو یہ درود شریف  
پڑھتا رہے انشاء اللہ برکت نصیب ہوگی۔

Continuous recital of this *durud* will ensure an increase in provision, *Insha Allah*.

## ہر طرح کی ترقی و برکت کے لئے

For Overall Advancement  
And Blessings

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا الْشَّهِيدِ  
صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْأَحْسَانِيْ  
وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

اگر کوئی شخص آں اولاد، مال و اسباب میں برکت اور  
ترقی چاہے تو وہ یہ درود شریف پڑھتا رہے انشاء اللہ  
ترقی ہوگی۔

If anyone recites this *durud* then he  
will find blessing in his family,  
children, property and materials,  
*Insha Allah.*

## ہر طرح کی حاجات و ضروریات کی تکمیل کے لئے

For Every Kind Of Need

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ  
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبٍ إِنِّي مُشْتَاقٌ إِنَّكَ  
جَمَالُكَ وَرَسُولُكَ ۝ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ ۝

نماز ظہر کے بعد یہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ  
ہر قسم کی حاجت اور ضروریات کو پورا فرماتے ہیں۔

If this *durud* is recited after the *salah* of *zuhr*; Allah will fulfill every need and desire.

ہر مصیبت و پریشانی دور کرنے کے لیے

To Remove Every Difficulty  
And Distress

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا  
مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَحْلِي بِهَا عَقْدَتِي وَتُفْرِجْ  
بِهَا كُرْبَتِي وَتُنْقَدِنِي بِهَا مِنْ وَحْلَتِي  
وَتُقْبِلْ بِهَا عَشْرَتِي وَتَفْضِي بِهَا حَاجَتِي ۰

جو شخص کسی پریشانی یا مصیبت سے دوچار ہو تو تجد کی  
نماز کے بعد رخ بقبلہ بیٹھ کر یہ درود شریف ایک ہزار  
بار پڑھے انشاء اللہ پریشانی دور ہوگی۔

He who is afflicted by an anxiety or  
distress may recite this durud 1000  
times after the *salah* of *tahajjud*  
continuing to face the *qiblah*.

ہر قسم کا درد و بیماری دور کرنے کے لیے

To Cure Every Pain And Illness

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّبَعْدَهُ كُلَّ دَاءٍ وَّ  
دَوَاءٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ ۝

(زیر الدھول ای جذاب الرسل دوال نمبر ۱۲۲)

کسی بھی قسم کی بیماری اور درد سے نجات کے لیے یہم  
اللہ اور سورہ فاتحہ اول آخراں درود شریف کے ساتھ  
پڑھ کر دم کریں۔ انشاء اللہ شفا ہوگی۔

If anyone suffers from an illness or pain, recite *bismillah* and *surah al-Fatihah* with this *durud* before and after the recital.

ہیضہ و طاعون کی وبا سے محفوظ رہنے کے لیے

### As A Protection From Cholera And Plague

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الْ  
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعْدِهِ وَّ دَعُوا إِلَيْهِ

ہیضہ و طاعون سے نجات کے لیے یہ درود شریف  
پڑھتے رہیں۔ انشاء اللہ محفوظ رہیں گے۔

Recite this *durud* continuously to  
preserve yourself from cholera and  
plague. *Insha Allah*, you will be safe.

آسیب، جنات اور موزی جانوروں  
سے محفوظ رہنے کے لئے

For Protection From The Evil Spirit  
Jinns And Harmful Animals

صَلَّى اللَّهُ سَبْحَانَهُ وَبِحَمْدِهِ عَلَى مُحَمَّدٍ  
عَلَيْهِ وَرَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ وَاللهُ وَبَارَكَ  
وَسَلَّمَ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ<sup>۝</sup> (زیرین الوصول ۱۵۰)

جس شخص کو آسیب، جنات یا موزی جانور سانپ،  
بچھو وغیرہ کا ذرہ جو اس درود شریف کو پڑھتا رہے۔  
انشاء اللہ الد تعالیٰ محفوظ فرمائیں گے۔

If anyone is scared of evil spirits, the *jinns* or harmful animals like snakes, scorpions, etc. then he must continuously recite this *durud*. *Insha Allah*, He will protect him.

بینائی تیز کرنے اور آنکھوں کی تکلیف دور کرنے کے  
لیے ہر نماز کے بعد تین بار یہ درود شریف پڑھ کر  
آنگیوں پر دم کریں اور آنکھوں پر پھیر دیں۔  
انشاء اللہ فائدہ ہوگا۔ انتہائی آزمودہ ہے۔

To improve eyesight and cure  
ailments of the eyes, recite this *durud*  
three times after every *salah*, blow  
on the fingers and rub the eyes lightly  
with them. This is a tried remedy.  
*Insha Allah*, it will prove beneficial.

## آنکھ کی جملہ بیماریوں کے لئے

For Every Kind Of Eye Ailment

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالسَّابِقِ  
لِلْحَلْقِ نُورًا وَالرَّحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ ظُهُورًا  
عَدَدُ مَنْ مَضَى مِنْ خَلْقِكَ وَمَنْ بَقَى  
مِنْ سَعِدَ مِنْهُمْ وَمَنْ شَقَى صَلَاةً تَسْتَغْرِقُ  
الْعُدُوُّ تُحِيطُ بِالْحَدِّ صَلَاةً لِأَغَايَا لَهَا وَلَا  
اِنْتِهَا وَلَا أَمْدَلَهَا وَلَا اِنْقِضاً  
صَلَواتِكَ الَّتِي صَلَيْتَ عَلَيْكَ صَلَاةً  
دَائِمًا بِدَوَامِكَ وَعَلَى اللَّهِ وَصَاحِبِهِ  
كَذَاكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ

(زیرت الوصول جوال نمبر ۱۲۰)

## لا علاج مرض کے لیے

(کینسر و شوگر وغیرہ)

When A Disease Is Incurable

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ ذَاءٍ

وَدُوَاءٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

جو شخص کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو جس کا علاج نہ ہو  
جیسے کینسر و شوگر وغیرہ یا سخت بیمار ہو تو سوبار یہ  
درود شریف پڑھ کر بیمار پر دم کریں اور پانی پر دم کر  
کے پلانیں۔ انشاء اللہ فائدہ ہوگا۔

If anyone suffers from an incurable disease, like cancer or diabetics, or is terminally ill, then recite this *durud* a hundred times and blow on the patient. Also, blow on some water and let the patient drink it.

ہول دل اور بلڈ پریشر کے لیے

For An Uneasy Heart,  
Depression And Blood Pressure

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِّيٍّ وَسَلِّمْ  
الظَّاهِرِ الرَّاكِنِ صَلَاةً تُحَلِّ بِهِ  
الْعَقْدَ وَتُفْكِكَ بِهِ الْكُرْبَ

اگر کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے یادِ گھبرا تا ہوتا ہر روز فجر و مغرب کی نماز کے بعد یہ درود شریف ۳۱۳ بار پڑھ کر سینہ پر دم کرے انشاء اللہ سکون قلب حاصل ہوگا۔ انتہائی محب ہے۔

A person who suffers from blood pressure or depression must recite this durud 313 times after the salahs of *fajr* and *maghrib* every day and blow on his chest. *Insha Allah*, he will find peace of heart. It is a well tried invocation.

## ہر قسم کے درد کے لیے تیر بہدف

Efficacious For Every Kind Of Pain

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى أَلِي  
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدْدِ كُلِّ دَاءٍ وَّ دَوَاءٍ بَعْدِ  
كُلِّ عَلَيَّ وَ شَفَاء٥

کسی بھی قسم کا درد ہو تو اس درود شریف کو پڑھ کر  
مریض پردم کریں۔ انشاء اللہ افاقہ ہو گا زعفران سے  
لکھ کر مریض کو پلا دیں درود ختم ہو جائے گا۔ بہترین  
نسخہ ہے۔

Recite this *durud* and blow on a patient suffering from any kind of pain. Or, write it down with saffron and let the patient drink. *Insha Allah*, he will recover.

# تیگ دستی اور شوہر کے ظلم سے نجات کے لیے

Delieverance From Hardship  
And Husband's Cruelty

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ  
الْفُرْقَانِ وَجَامِعِ الْوَرْقِ وَمُنْزِلِهِ  
مِنْ سَمَاءِ الْقُرْآنِ وَعَلِّيْ إِلٰيْ مُحَمَّدٍ  
وَسَلِّمُ۝  
(ذريعة الوصول جواں بہرہ ۲۵)

اگر کوئی حالت تیگ دستی میں ہو یا عورت کا شوہر اس پر ظلم و ستم کرتا ہو تو فجر اور عشاء کی نماز کے بعد اے باریہ درود شریف پڑھ کر دربار خدا تعالیٰ میں دعا کرے۔ انشاء اللہ خوشحالی نصیب ہو گی اور شوہر مہربان ہو گا۔ انشاء اللہ

برے خیالات اور ساوس شیطانی  
سے حفاظت کے لیے

To Fight Off Evil Thoughts  
And Devil's Promptings

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُّفْرِيقِ  
فِرْقَ الْكُفَّارِ وَالظُّغَيْلَانِ وَمُشَتِّبِ بُغَاةِ  
جِيُوشِ الْقَرِينِ وَالشَّيْطَانِ وَعَلَى أَلِ  
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسَلِّمُۤ

جو شخص برے خیالات اور ساوس شیطانی کے باعث  
پریشان ہو تو اس درود شریف کو پڑھتا رہے انشاء اللہ  
برے خیالات اور شیطانی و سوسوں سے نجات حاصل  
ہوگی۔ مجبوب ہے۔

If anyone is overcome by wicked  
thoughts and temptations then he must  
recite this *durud* regularly.

If anyone faces stringent circumstances, or if a woman is subject to her husband's cruelty, they must recite this durud 71 times each after the *salahs* of *fajr* and *isha* and pray to Allah for deliverance. *Insha Allah*, times will change for the better and the woman's husband will be kind to her.

سونے سے قبل دس بار یہ درود شریف پڑھ کر گھر کے  
چاروں کونوں میں پھونک دیں انشاء اللہ گھر اور  
کار و بار چوروں و داکوؤں سے محفوظ رہیں گے۔

Before going to sleep, recite this *durud* ten times and blow around the four corners of the house, *Insha Allah*, the home and business will be safe from thieves and bandits.

ڈاکوں اور چوروں سے محفوظ رہنے کے لیے

Being Safe From Bandits  
And Thieves

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ كَمَا  
أَمْرَتَنَا أَن نُصَلِّي عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى  
مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ كَمَا يُسْعِي أَن يُصَلِّي  
عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ بَعْدَ مَن  
صَلَّى عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ  
بَعْدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى  
مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى أَن  
يُصَلِّي عَلَيْهِ

(ذريعة الوصول والنشر ۱۵۸)

Recite this *durud* one hundred times every day with full concentration and make supplication to Allah. He will arrange for repayment of debt from unexpected quarters. It is tried invocation.

## ادائیگی قرض کے لیے

### For Repayment Of Debt

اللَّهُمَّ حَلِّ أَبْدَا أَفْضَلَ صَلَواتِكَ عَلَى  
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَبَيْكَ النَّبِيِّ  
الْأَمِينِ وَالْهَوَسَلَمُ تَسْلِيمًا وَرَدْدَةً  
تَشْرِيفًا وَأَنْزِلْهُ الْمُنْزَلَ الْمُقْرَبَ  
عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۝ ( ذریعة الوصول ج ۱ ص ۲۶ )

قرض کی ادائیگی کے لیے ہر روز یکسوئی کے ساتھ  
ایک سو بار یہ درود شریف پڑھیں پھر اللہ تعالیٰ سے  
دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ خزانۃ غیب سے ادائیگی قرض کا  
انظام فرمائیں گے۔ انتہائی مجرب ہے۔

## حاجت پوری کرنے اور ہر طرح کی مشکل کے لیے

To Have One's Needs Fulfilled  
And For Every Kind Of Difficulty

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ أَهْلٌ  
وَمُسْتَحْفَظٌ

اگر کسی مشکل کا کوئی حل نہ دکھانی دیتا ہو یا حاجت  
پوری نہ ہوتی ہو تو نماز عشاء کے بعد وضو کر کے رخ  
بقبلہ بیٹھ کر ایک ہزار بار یہ درود شریف پڑھے پھر دعا  
کرے انشاء اللہ مشکل جلد حل ہوگی۔ مجرب ہے۔

If a difficulty seems to remain unsolved or a need is unfulfilled then, after the *salah* of *isha*, make fresh ablution, sit down facing the *qiblah* and recite this *durud* one thousand times.

ہر طرح کی عزت اور کامیابی کے لیے

To Achieve Honour And Success

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْعَالَمِينَ حَبِيبِكَ  
مُحَمَّدٍ وَّالْهُصُولَةِ أَنْتَ لَهَا أَهْلٌ  
وَبَارِكْ وَسِّلْمْ كَذَاكُو

جو شخص معاشرہ میں اپنا اور اپنی اولاد کا باعزت مقام  
چاہے ہر روز نماز کے بعد یہ درود شریف سات بار  
پڑھے انشاء اللہ عالی مرتبہ پائے گا۔

He who craves for a respectful position in society for himself and his offspring must recite this *durud* seven times after every *salah* every day.

اگر کوئی شخص بے گناہ قید یا ناقص مقدمہ میں بنتا ہو تو  
ہر روز بعد از نماز فجر ۳۱۳ بار یہ درود شریف پڑھے اور  
دربار باری تعالیٰ میں دعا کرے انشاء اللہ باعزت  
کامیابی ہوگی۔

If any innocent person is unjustly imprisoned or subjected to an unjust law-suit, then he must recite this *durud* 313 times after the *salah* of *fajr* every day and then pray to Allah for deliverance.

مقدمہ نا حق سے نجات اور قید سے  
برہائی کے لیے

Deliverance From An Uncalled For  
Law-Suit And Release From Prison

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ حَتَّى لا يَقُولَنَا مِنْ  
يَقِنَّا مِنْ صَلَواتِكَ شَيْءٌ وَبَارِكْ  
عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ حَتَّى لا يَقُولَنَا مِنْ  
بَرَكَاتِكَ شَيْءٌ وَارْحَمْ النَّبِيِّ مُحَمَّداً  
حَتَّى لا يَقُولَنَا مِنْ رَحْمَتِكَ شَيْءٌ وَسَلِّمْ  
عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ حَتَّى لا يَقُولَنَا مِنْ  
سَلَامِكَ شَيْءٌ

(ذريعة الوصول حوالى ١٩٣)

# قرض سے خلاصی کے لیے

Delieverance From Debt

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى الْأَلْيَاءِ  
وَبَارِكْ وَسَلِّمْ  
(زید الاصول والخبر ۲۰۷)

اگر کوئی شخص قرض سے چھکا رہ چاہتا ہو تو بعد ازاں ماز  
ظہر سو بار یہ درود شریف پڑھے ادا یعنی قرض کا راست  
نکلا گا قرض کتنا ہی کیوں نہ ہو اور آئندہ بھی مقرض نہ  
نہ ہو گا۔

He who is overwhelmed by debt howsoever much, must recite this *durud* a hundred times after the *salah* of *zuhr*. Not only will his debt be repaid but also he will never again become a debtor.

## خوشحالی اور ترقی کا رو بار کے لیے

### Prosperity In Business

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ  
رَسُولَكَ وَصَلِّ عَلَى الْمُرْمَنِينَ  
وَالْمُؤْمَنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

کاروبار اور مال و دولت میں ترقی اور زیادتی کے لیے  
روزانہ ۳۱۳ بار یہ درود شریف پابندی سے پڑھیں  
اور دعا کریں انشاء اللہ برکت اور خوشحالی نصیب ہوگی۔

Recite this *durud* punctiliously 313 times every day and pray for prosperity in business and property.

## برائی سے حفاظت اور گناہوں کے کفارہ کے لئے

To Keep Away From Wickedness  
And As An Expiation For Sins

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا الْمَدْثُورِ  
صَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْهَادِيِّ وَاصْحَابِهِ  
وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ۝

اگر کوئی شخص برائی سے بچنا اور گناہوں کا کفارہ  
چاہے تو یہ درود شریف پڑھتا رہے انشاء اللہ خواہش  
پوری ہوگی۔

A person who continues to recite this  
*durud* will be safe from evil and his  
sins will be atoned, *Insha Allah*.

## موت سے پہلے بشارتِ جنت کے لیے

### Tidings Of Paradise Before Death

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا الْمَرْمَلَ  
صَلِّ إِلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِهِ وَاصْحَّابِهِ  
وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

اگر کوئی شخص مرنے سے قبل جنت میں اپنا نام کانہ دیکھنا  
چاہے تو وہ یہ درود شریف پڑھا کرے۔ انشاء اللہ  
خواہش پوری ہوگی۔

He who recites this *durud* frequently  
will see, before death, his place in  
paradise.

## بھولی چیزیااد آنے کے لیے

To Remember That  
Which Is Forgotten

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا أَجْوَذِ النَّاسِ  
صَلِّ إِلَهَ عَلَيْهِ وَعَلَى الْهَوَاضِحَابِهِ  
وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ۝

یہ درود شریف پڑھنے سے بھولی ہوئی چیزیااد آجائی  
ہے انتہائی مجبوب ہے۔

If this *durud* is recited then whatever  
is forgotten will come back to  
memory.

قوت حافظہ پڑھانے اور  
نسیان دور کرنے کے لیے

To Have A Good Memory

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا الرَّحْمَةِ  
صَلِّ إِلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِهِ وَاصْحَابِهِ  
وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

اگر کوئی نسیان دور کرنے اور اپنا حافظہ پڑھانے کا  
خواہش مند ہو تو یہ درود شریف پڑھا کرے۔ طلباء  
کے لیے بے حد کار آمد ہے۔

If anyone recites this durud regularly  
then he will overcome forgetfulness  
and will improve his memory. It is  
recommended to the students.

چاہت کے رشتہ کے لیے

In Order That One's  
Proposal May Be Approved

الْحَمْدُ لِلَّهِ ذِي الْعَزَّةِ وَالْكَبْرِيَاءِ وَصَلَّى  
اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيَّـو

جس شخص کی خواہش ہو کہ اسے پسند کا رشتہ ملے تو ہر  
روز نماز عشاء کے بعد یہ درود شریف 1100 (گیارہ سو)  
مرتبہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے انسان اللہ  
کا میابی ہوگی۔

If anyone craves for a desired match  
then he must recite this *durud* 1100  
times every day after the *salah* of  
*isha* and pray to Allah. *Insha Allah*,  
his proposal will meet approval.

## امتحان میں کامیابی کے حصول کے لیے

### Success In Examinations

رَبَّ حَلَّ عَلَى نَبِيِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْلَهَا  
وَأَفْضَلَ لِنِي بِجَاهِهِ حَوَائِجِيَّ كُلُّهَا ۝ وَصَلَّ  
عَلَيْهِ كَمَا أَنْتَ أَهْلُهَا ۝ وَسَلَّمَ وَشَرَفَ  
وَكَرَمَ دَائِمًا ۝

ہر نماز کے بعد یہ درود شریف 11 بار پڑھ کر کامیابی امتحان کی دعا کریں انشاء اللہ بر قسم کے امتحان میں کامیابی ہوگی۔

Recite this *durud* 11 times after every *salah* and pray for success in examinations whatever kind it be.

## زوجین میں باہمی محبت کے لئے

### Mutual Love Between Spouses

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مُعَطِّرِ الرُّوحِ  
وَالْأَلِيَّةِ الطَّاهِرَيْنَ ۝ صَلَةٌ تَعْظَرُ نَا  
بِهَا وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ۝

اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک ناراض رہتا ہو یا  
باہمی محبت مطلوب ہو تو یہ درود شریف ۴۵۰ بار پڑھ  
کر مشک و عنبر کی خوشبو یا پھولوں پر دم کر کے خوشبو  
سن گھیں اور اگر مطلوبہ شخص دور ہو تو چینی پر دم کر کے  
چیزوں کو ڈال دیں انشاء اللہ خوب ایک دوسرے کو  
چاہنے لگیں گے۔ عمل کی مدت اکتائیں دن ہے۔

Recite this *dhirud* 450 times and blow on musk and ambergris or on flowers and inhale the fragrance. If the desired person is far away then blow on sugar and serve it to the ants. Do this for 41 days.

غائب کو حاضر کرنے، مقدمہ میں  
کامیابی اور پریشانی دور کرنے کے لیے

To Bring Forth The Lost,  
To Get A Favourable Verdict  
And To Remove Anxiety

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِّيٍ  
الْأَمْرِي عَدَدَ مَا عَلِمْتَ وَزَنَةَ مَا عَلِمْتَ  
وَمَلَأْ مَا عَلِمْتَ بِيَا مُصَوِّرٍ

اگر کوئی غائب کو حاضر کرنے، خت پریشانی کو دور  
کرنے اور مقدمہ میں کامیابی چاہتا ہو تو ॥ باری  
درود شریف پڑھے انشاء اللہ کامیابی حاصل ہوگی۔

If this *durud* if recited 11 times, *Insha Allah*, the lost will be recovered, a favourable verdict will be pronounced in the law-suit and anxiety will be removed.

جس لڑکے یا لڑکی کا رشتہ نہ آتا ہو یا شادی میں  
رکاوٹ ہوتا نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد وہ لڑکا یا  
لڑکی اور اس کی ماں یہ درود شریف پانچ سو بار پڑھ کر  
دعا کرے انشاء اللہ تمام رکاوٹ میں جاتی رہیں گی۔

If a suitable match is not received for anyone's son or daughter or there are hindrances to their marriage, then the son or daughter and their mother must recite this *durud* 500 times after the *salah* of *fajr* and *maghrib* and pray to Allah. *Insha Allah*, they will succeed.

مناسِب رشتے اور شادی میں  
رکاوٹ دور کرنے کے لیے

For A Reasonable Match And  
Removal Of Hindrances To Marriage

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ  
كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ عَلَى آلِ  
إِبْرَاهِيمَ أَنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ  
بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ  
كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ عَلَى آلِ  
إِبْرَاهِيمَ أَنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ۝

(زیرہ الوصول حوالہ نمبر ۱۰)

## ذاتی مکان کے لیے

To Have One's Own Home

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ  
وَآلِهِ وَسَلِّمٍ

ذاتی گھر کے حصول کے لیے جمعہ کے دن عصر کی نماز  
کے بعد یہ درود شریف ایک ہزار بار پڑھ کر دعا کریں  
تو مکن جانب اللہ گھر کا انتظام ہو گا نیز رہائش کے  
لیے پریشانی بھی جاتی رہے گی۔

He who recites this *durud* 1000 times on Friday after the *salah* of *asr* and makes a supplication will get his own home by Allah's help. Also, his anxiety about residence will be removed.

اُسی سال کے گناہ معاف ہوں

Sins Committed Over A Period  
Of 80 Years Will Be Forgiven

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ  
وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأَمِينِ ۝  
(تول برق)

جمعہ کے دن یہ درود شریف ۸۰ بار پڑھنے سے اسی سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

If this *durud* is recited on Friday 80 times, then sins over 80 years and forgiven.

سو حاجات پوری ہوں

Have 100 Needs Fulfilled

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسِّلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا الْمُقْمَمِ  
صَلِّ إِلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِهِ وَاصْحَابِهِ  
وَبَارِكْ وَسِّلِّمْ

یہ درود شریف ہر روز سو بار پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ  
سو حاجات پوری فرماتے ہیں آخرت کی ستر حاجات  
اور دنیا کی ۳۰ حاجات۔

Allah fulfills one hundred needs of a person who recites this *durud* 100 times every day, seventy needs in the next world and thirty in this.

## جنتی پرندے کا دعا، مغفرت کرنا

### Prayer Of Bird Of Paradise

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَصَلَّى اللَّهُ  
عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَسَلَّمَ

(زیرین الدوام) (والنبر ۱۵)

چھینک آنے پر اگر کوئی شخص یہ دعا اور درود شریف  
پڑھتے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک پرندہ پیدا  
فرمائیں گے جو عرش الہی کے نیچے اپنے پروں کو  
حرکت دیتے ہوئے یہ دعا کرے گا: اے اللہ! ان  
الفاظ کے کہنے والے کی مغفرت فرم۔

When one sneezes and makes this supplication with the *durud*, Allah creates a bird that flutters its wings while it perches under the throne and prays, “O Allah, forgive the person who spoke these words.”

ہر نماز کے بعد تین مرتبہ اس درود شریف کو پڑھنے کا  
 معمول بنانے والے کو اللہ تعالیٰ مقبولیت اور ارباب  
 اقتدار کی نظر وہ میں محبوبیت عطا فرمائیں گے۔ نیز  
 عطر گلاب پر یہ درود شریف پڑھ کر دم کر کے چہرے پر  
 مل کر اگر کسی حاکم یا مطلوب شخص سے ملنے تو وہ بغیر کسی  
 جھٹ کے کام کر دے گا، انٹرو یو میں کامیابی کے لیے  
 انتہائی مجرب ہے۔

The person who recites this *durud* three times after every *salah* regularly will become accepted by and popular among people. He will be esteemed by persons in authority. If it is recited by anyone on rose water which is then rubbed on the face then the ruler or man in authority whom he meets will attend to him without delay. It is also good for success in interview.

انصر ویو میں کامیابی اور مقبولیت و محبو بیت کے لیے  
 For Success In Interview, General  
 Acceptance And To Be Loved

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَاةً مَقْرُونَةً  
 بِذِكْرِهِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَاةً  
 جَامِعَةً بَيْنَ فَرْجَهُ وَشَرُورَهُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ  
 عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَاةً مُبْحِيطَةً بِطُورِهِ وَ  
 صَرْوَرِهِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَاةً  
 مُنَوِّرَةً لِلْقُلُوبِ أَصْحَابَ حَدَّوْرَهُ ۝ اللَّهُمَّ  
 صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَاةً شَارِحةً لِلنَّقْوَحِ  
 فِي مَسْطُورِهِ ۝ وَصَلِّ عَلَى جَمِيعِ الْحَوَافِهِ  
 مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأُولَيَاءِ بِعَدْدِ عَبْرَرِهِ وَ  
 مُرْوَرَهِ بَيْنَ الْمَاءِ وَظُهُورَهِ وَالنُّورِ  
 وَظُهُورَهِ وَالْحَقِّ وَأَمْرَرَهُ ۝

(ذریتہ الوصول حوالہ نمبر ۱۸۱)

اس درود شریف کا ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہر دینی و  
 دنیاوی کامیابی کا باعث ہے اور سفر بحری کی تمام  
 آفات سے حفاظت کے لیے مجبوب ہے۔ پڑھنے کا  
 طریقہ یہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد دو رکعت انقل صلوٰۃ  
 حاجت پڑھیں ہر رکعت میں بعد ازاں سورۃ فاتحہ گیارہ  
 بار سورۃ اخلاص پڑھیں سلام کے بعد یہ درود شریف  
 ایک سو بار پڑھیں اور اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے ہاں  
 پیش کریں انشاء اللہ حاجت پوری ہوگی۔

Recite this *durud* 1000 times. For one's needs, the method is to offer two reka'at optional *salah* after the *salah* of *isha*. In each raka'ah recite *surah al-Fatihah* followed by *surah Ikhlas* eleven times. After finishing the *salah* by offering the salutation, recite this *durud* 100 times and pray for your need to Allah.

Before cultivating the field recite this *durud* 1414 times, blow on water and sprinkle the water on the field. Allah will keep the field safe from disease and pests. If it is recited after every salah 21 times also then there will be a good crop.

# فصلوں اور زرعی بیماریوں سے بچانے کے لیے

To Protect Crop And Produce  
From Pests And Disease

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعْدِ أَوْراقِ  
الْأَشْجَارِ وَبِعَدِ دَفَّتِ الْأَمْطَارِ وَبِعَدِ  
دَوَابِ الْبَرَارِي وَالْبَحَارِ وَعَلَى إِلَهِ  
وَصَاحِبِهِ وَسَلِّمُ

(ذريعة الوصول جواہر نمبر ۱۲۱)

کاشت کرنے سے قبل اس درود شریف کو ۱۳۲ مرتبہ  
پڑھ کر پانی پر دم کر کے کھیت میں چھڑ کنے سے اللہ تعالیٰ  
فصل کی زرعی بیماریوں اور کیڑے مکوڑوں سے حفاظت  
فرمائے گا نیز ہر نماز کے بعد ۲۱ مرتبہ اس درود شریف کو  
پڑھنا فصل میں ترقی و برکت کا باعث ہے۔

سفر بحری میں خلاصی آفات اور دینی و  
دنیاوی انہم کام میں بھر پور کامیابی کے لیے

To Be Safe During A Sea Voyage And  
For A Through Success In All Affairs  
Of The World And The Hereafter

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّةُ تَبَّعْدُنَا بِهَا  
مِنْ جَمِيعِ الْأَهْوَالِ وَالْأَفْاقَاتِ وَتَقْضِي لَنَا بِهَا  
جَمِيعَ الْحَاجَاتِ وَتُطْهِرْنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ  
الشَّرَّاتِ وَتُرْفَعْنَا بِهَا عَنْكَ أَعْلَى  
الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغْنَا بِهَا أَقْصَى الْغَایَاتِ مِنْ  
جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ  
إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(نزیعہ المؤسول (والثیر) ۱۳)

## مستقل مزاجی کے لیے

### To Be Single Minded

اللَّهُمَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الْأَلْيَاءِ  
كَلِمَاتُكَرَهُ الظَّاهِرُونَ وَ كَلِمَاتُ سَنَهِيِّ عَنْهُ  
الْغَافِلُونَ وَ عَلَى الْأَلْيَاءِ  
وَ بَارِكْ وَسَلِّمْ

(دریجۃ الوصول ج ۱، نمبر ۱۳۹)

نجر کی نماز کے بعد سو مرتبہ یہ درود شریف پڑھنے والے  
کو اللہ تعالیٰ مستقل مزاجی کی دولت عطا فرمائیں گے  
نیز اس درود شریف کی برکت سے تمام کاموں میں  
آسانی اور اوقات ضائع ہونے سے بچ جاتے ہیں۔

If anyone recites this *durud* one hundred times after the *salah* of *fajr*, Allah makes him unwavering and determined. Moreover, by the blessing of this *durud* all tasks are made easy and one's time is saved from being wasted.

## عورتوں کے تمام امراض کے لیے

For Ailments Of Women

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسِّلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَنَبِيِّكَ صَلَّاةً بِهَا  
تُشَوِّرُ الْقُلُوبَ وَتُفْرِجُ الْهُمَمَ وَتُزَيِّلُ  
الْغُمَومَ وَتُدْفِعُ الْبَلَاءَ وَتُنَزِّلُ الشَّفَاءَ وَ  
تُسْهِلُ الْأُمُورَ

جو عورت یہ درود شریف بکثیرت پڑھے گی اللہ تعالیٰ  
تمام امراض سے شفاء عطا فرمائے گا اگر کسی کو کوئی  
خت تکلیف ہو تو یہ درود تین سو مرتبہ پڑھیں۔

Allah will cure the woman who  
recites this *durud* very often of all  
illnesses. If a woman has a severe  
pain then she must recite it 300 times.

پرانے بخار اور مائیکو سائید کے لیے

For Chronic Fever And Typhoid

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعْدَ كُلِّ دَاءٍ وَ  
دَوَاءٍ وَبَارِكْ وَسِّلْمُ

ہر قسم کے پرانے بخار اور مائیکو سائید کے مرضیں پر گیارہ  
بار یہ درود شریف پڑھ کر دم کریں انشاء اللہ اللہ تعالیٰ  
شفاء عطا فرمائے گا۔

Recite this *durud* eleven times and  
blow on the patient, *Insha Allah*, he  
will be cured.

## قوت حافظہ کے لیے

### For A Strong Memory

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ  
وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ بِعَدَدِ حَمْعِ الْقُرْآنِ  
حَزْفًا حَرْفًا وَبَعْدَدَ كُلَّ حَرْفٍ أَلْفًا أَلْفًا

(ذريعة الوصول الى جناب الرسول)

حفظ قرآن مجید یا کسی چیز کو یاد کرنے کے لیے اول آخر یہ درود شریف پڑھنے سے قوت حافظہ کو نہایت تقویت ملے گی انشاء اللہ۔ نیز دنیا و آخرت میں اس درود شریف کی برکت سے طاقت و برکت ملے گی۔

To memorise the noble Qur'an or anything else, recite this *durud* before and after (the exercise), memory potential will be strengthened considerably.

Moreover, through the blessing of this *durud*, one will gain strength and blessing.

صیغہ نامہ	فہرست
43	مناسب رشتے اور شادی میں رکاوٹ ہو رکنے کے لیے
44	ذاتی مکان کے لیے
45	اسی سال کے گناہ معاف ہوں
46	سوچا جات پوری ہوں
47	بختی پرندے کا دعاہ مغفرت کرنا
49	اندویو میں کامیابی اور مقبولیت و محبوسیت کے لیے
51	فصلوں اور زرعی اجتناس کو بیماریوں سے بچانے کے لیے
53	سفر، تحری میں خلاصی آفات اور دینی دنیا وی اہم کام میں
54	کھرپور کامیابی کے لیے
55	مستقل مزاجی کے لیے
56	خورتوں کے تمام امراض کے لیے
57	پرانے بخار اور نام بینا نیز کے لیے
	قوت حافظ کے لیے

صیغہ نامہ	فہرت
27	ادا میں قرض کے لیے
28	حاجت پوری کرنے اور ہر طرح کی مشکل کے لیے
29	ہر طرح کی عزت اور کامیابی کے لیے
31	مقدمہ نماق سے نجات اور قید سے رہائی کے لیے
32	قرض سے خاسی کے لیے
33	خوشحالی اور ترقی کا روابرگے لیے
34	ہر اپنی سے نخالکت اور گناہوں کے آثارہ کے لیے
35	بھروسی چیز یا آئندے کے لیے
36	وقت حافظہ بڑھانے اور سیاست دوڑ کرنے کے لیے
37	موت سے پہلے بھارت بھٹت کے لیے
38	چاہت کے رشتہ کے لیے
39	امتحان میں کامیابی کے حصول کے لیے
40	زندگی میں باہمی محبت کے لیے
41	غائب کو حاضر کرنے، مقدمہ میں کامیابی اور پریشانی دور کرنے کے لیے

صلی اللہ علیہ وسلم	نمبر
8	توبیت و عاکے کے لیے
9	رزق میں برکت کے لیے
10	ہر طرح کی ترقی و برکت کے لیے
11	ہر طرح کی حاجات و ضروریات کی تکمیل کے لیے
12	ہر منصیت و پریشانی دو رکنے کے لیے
13	ہر قسم کا درد و بیماری دو رکنے کے لیے
14	ہر ہند و خاغون کی وبا سے محفوظ رہنے کے لیے
15	آسیب، جذات اور رہوادی چاؤروں سے محفوظ رہنے کے لیے
17	آنکھوں کی جملہ بیماریوں کے لیے
18	لامان مرغ کے لیے
19	ہول دل اور بلند پریشرگے کے لیے
20	ہر قسم کے درد کے لیے تیر بیدف
21	برے خیالات اور سادس شیطانی سے حفاظت کے لیے
23	نگل و می اور شوہر کے ظلم سے نجات کے لیے
25	ڈاکوؤں اور چوروں سے محفوظ رہنے کے لیے

عملیات و نظائر اسی وقت موثر ہو سکتے ہیں جب اعتقاد اور  
یقین کی دولت بھی نصیب ہوا اگر کوئی شخص شک و شبہ کا شکار ہے  
اور اعتقاد و یقین کی دولت سے محروم ہے وہ ان سے فائدہ نہیں  
انداز سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم ﷺ پر کثرت سے  
درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی اتباع  
نصیب فرمائے۔ امین یا رب العالمین (عشر)

## توبہ فرمائیں

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سید الکوئین بن خراشیل حضرت محمد ﷺ پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے آپ پر کثرت سے درود پڑھنے کا اہتمام اور اس پر مداومت آپ سے محبت کی علامت ہے اور درود پڑھنے سے پیش نظر یہی مقصد ہونا چاہیے۔ بعض بزرگان دین نے دنیاوی پریشانیوں کے لیے بھی درود پاک کو انتہائی مجرب پایا ہے انہی مجربات کو ترتیب دیا گیا ہے۔ درود شریف سے پریشانیوں کا علاج دیگر اسباب کی طرح ایک ظاہری سبب سمجھتے ہوئے اختیار کیا جائے اور علاج کو بنی کریم کی سنت، اتباع سمجھتے ہوئے کیا جائے دنیاوی پریشانیوں، مشکلات کا علاج بذریعہ درود شریف و وظائف و عملیات اسی وقت منفرد اور کار آمد ہے جب فرائض کی پابندی کی جائے، محربات سے اجتناب کیا جائے اور سنن و آداب کی رعایت کی جائے۔

## بہل اتم مکیت بگن وار الائچا عست کر اپنی گھوڑے ہیں

باہتمام : خلیل اشرف ٹھانی  
 طباعت : اگست ۲۰۰۷ء ملکی ار فکش  
 نسخاًت : 64 صفحات

### دریں سے گزاریں

ریتی اون و مٹھی کی جھٹا بے کی پیٹک رینگ جوولی ہوں۔ آئندہ اس دات کی تحریک  
 کے لئے اور وہیں مکمل پیڈ نام جو داد ہے ہیں۔ پیڈ گھی مل کھی کڑے کے لئے اور دو کرم  
 مطلع ہو، اور انہوں فارمیں کہ آنہ داد دات ہیں۔ دست و مکہ، جاؤں

### ملکے پر

دوارۃ المعرفہ جامعہ دراصلہ کراپنی  
 بہت اقرآن ابردیوان اور لیلی  
 بہت احمد 20 نجف رضا احمدی  
 بہت القامت ملک اشرف الداری مکشن اقبال بلاک اپنی  
 کتبہ سید المنشید احمدی اور احمدی ارالاہد  
 کتبہ اسلامیہ ایمن پورہ زادہ احمد فیصل آباد  
 مکتبہ اسلامیہ کالی ۹۱ ایڈت آباد  
 مکتبہ المعرفہ ملک احمدی۔ پشاور

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَسَلَّمَ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِہِ وَسَلَّمَ

# درود شریف سے ہماری پریشانیوں کا علاج

مُؤلف

مولانا محمد شفیق صاحب

ناشر جامع علم اسلامیہ، خوری ناؤن

دارالإشاعت  
ادب ملک رائے بنگل روڈ  
کراچی پاکستان  
2213768

ISBN 978-969-426-207-7



DIE-7658